



**NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN  
ASSEMBLY DEBATES**

-----  
*Friday, the 27<sup>th</sup> January, 2017*  
-----

**Table of Contents**

1. [Recitation from the Holy Qur`An](#)
2. [Recitation of Naat](#)
3. [Announcement for arranging a meeting Reg: restoration of Code of Conduct in the House](#)
4. Starred Questions and Answers
5. Unstarred Questions and Answers

**NATIONAL ASSEMBLY OF PAKISTAN**  
**ASSEMBLY DEBATES**

-----  
*Friday, the 27<sup>th</sup> January, 2017*  
-----

The National Assembly of Pakistan met in the National Assembly Hall (Parliament House), Islamabad, at 10:35 of the clock in the morning. Mr. Speaker (Sardar Ayaz Sadiq) in the Chair.

-----

RECITATION FROM THE HOLY QUR'AN

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  
ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

[ترجمہ: اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو، پس اگر ایک ان میں دوسرے پر ظلم کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے۔، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان دونوں میں انصاف سے صلح کرادو، اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں میں صلح کرادو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔]

## RECITATION OF NAAT

کب تک لگی رہے گی فرقت کی آگ تن میں

آاے بہار طیبہ اجڑے ہوئے چمن میں

جس راہ سے گزرتے وہ راستے مہکتے

عشق خدا کی خوشبو تھی آپ کے بدن میں

محبوب کبریا ہیں یوں بزم انبیاء میں

جیسے ہو چاند روشن تاروں کی انجمن میں

## ANNOUNCEMENT FOR ARRANGING A MEETING REG: RESTORATION OF CODE OF CONDUCT IN THE HOUSE

جناب سپیکر: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ کل جو واقعہ قومی اسمبلی میں پیش آیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا جو الفاظ Leader of the House کے لئے اور ایم این ایز کے لئے use ہوئے۔ دونوں سائیڈوں سے گورنمنٹ اور اپوزیشن سے وہ نہایت غیر مناسب unparliamentary تھے اور اس سے ہاؤس کا تقدس بھی مجروح ہوا۔ ہاؤس اس طرح نہیں چلایا جاسکتا۔ جب تک میں Parliamentary Leaders کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے ایک Code of Conduct بنایا جائے جس کے تحت اس ہاؤس کو چلایا جائے۔ ایک دوسرے کی عزت کی جائے۔ تو اس لئے میں نے Code of Conduct بھی restore کرنا ہے اور سارے Parliamentary Leaders سے مشاورت کے ساتھ۔ اس لئے میں نے آج ایک meeting convene کی ہے ساڑھے دس بجے Parliamentary Leaders سے مشاورت کے لئے کہ کیا ہوا اور آگے ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ تو اس لئے میں آدھے گھنٹے کے لئے House کی proceedings جو ہیں suspend کر رہا ہوں تاکہ ہمارا پہلے طے پائے کہ ہم نے ہاؤس کو کس طرح چلانا ہے۔ شکریہ۔

(The proceedings of the House were suspended for 30 minutes)

(اجلاس کی کارروائی زیر صدارت جناب چیئرمین جناب محمود بشیر ورک گیارہ بج کر پچاس منٹ پر دوبارہ شروع ہوئی۔)

جناب چیئرمین: السلام علیکم! Please take your seats! کل والے افسوسناک واقعے کے بارے میں لیڈرز بات چیت کر رہے ہیں۔ اس کو کچھ وقت چاہیے اور فی الحال The House is adjourned to meet again on Monday, the 30<sup>th</sup> January, 2017 at 4.00 P.M. Thank you.

*(The House was adjourned to meet again on Monday, the 30<sup>th</sup> January, 2017 at 4:00 p.m.)*